

# وُضُوکا طریقه (شافعی)



پیشکش:  
**المدریة العالمیة**  
 (دعوتِ اسلامی)  
**Islamic Research Center**

یہ رسالہ شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رَضَوی قَامَتْ رِجَالُهُمُ الْعِشَّةُ کے رسالے ”وُضُوکا طریقه“ میں مسائل کی فقہ شافعی کے مطابق تبدیلی اور دیگر ترمیم و اضافے کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔

## پہلے اسے پڑھ لیجئے!

الحمد للہ! عاشقانِ رسول کی دینی تحریک دعوتِ اسلامی کے بانی، شیخِ طریقت، امیرِ اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابولہلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے کُتب و رسائل میں عقائد و اعمال، فضائل و مناقب، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت، سائنس و طب، اخلاق و ادب، روزمرہ کے معاملات اور دیگر بہت سے موضوعات پر علم و حکمت کا بہت قیمتی خزانہ ہوتا ہے اس لئے المدینۃ العلمیۃ (اسلامک ریسرچ سینٹر) کا شعبہ ”کُتبِ فقہِ شافعی“ آپ کی کُتب و رسائل کو ترجمیم و اضافہ کے ساتھ فقہِ شافعی کے مطابق مُرتب کر رہا ہے تاکہ فقہِ شافعی پر عمل کرنے والے افراد بھی امیرِ اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے معمور مدنی پھولوں سے استفادہ کر سکیں۔ شعبہ کُتبِ فقہِ شافعی کی طرف سے اس رسالے پر کام کی تفصیل یہ ہے:

- ★ رسالے میں ذکر کردہ تمام فقہی مسائل کو تبدیل کر کے فقہِ شافعی کی معتبر کُتب سے لکھا گیا ہے۔
- ★ ضرورتاً کہیں کہیں مسائل کا اضافہ کیا گیا ہے۔
- ★ دعوتِ اسلامی کی اصطلاحات، اسلامک ریسرچ سینٹر نیز شعبہ کُتبِ فقہِ شافعی کے اپ ڈیٹ اُصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسالے میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔
- ★ مذکورہ کام مکمل کرنے کے بعد مفتی محمد رفیق سعدی شافعی مدظلہ العالی سے پورے رسالے کی شرعی تفتیش کرائی گئی ہے۔

اس رسالے میں جو بھی خوبیاں ہیں یقیناً اللہ پاک کی توفیق، اس کے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا، اولیائے کرام کی عنایت اور امیرِ اہلسنت کی شفقتوں اور پُرخلوص دُعاؤں کا نتیجہ ہیں اور خامیوں میں ہماری غیر ارادی کوتاہی کا دخل ہے۔

المدینۃ العلمیۃ (اسلامک ریسرچ سینٹر)، شعبہ کُتبِ فقہِ شافعی

21 جمادی الاخریٰ 1442ھ / 4 فروری 2020ء

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ  
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
 وَضُوْكَاطْرِيقَهٗ (شافعی)

یہ رسالہ اوّل تا آخر پورا پڑھئے، قوی امکان ہے کہ آپ کی  
 کئی غلطیاں آپ کے سامنے آجائیں۔

### دُرُودِ شَرِيفِ كِي فَضِيْلَت

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ مُعْتَمَد ہے: جس نے دن اور رات میں میری  
 طرف شوق و مَحَبَّت کی وجہ سے تین تین مرتبہ دُرُودِ پَاک پڑھا اللہ پر حق ہے کہ وہ اُس کے  
 اُس دن اور اُس رات کے گناہ بخش دے۔<sup>[1]</sup>

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ

### عُثْمَانِ غَنِي كَا عَشَقِ رَسُوْل

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا  
 پھر یکا یک مسکرانے اور رُفقا سے فرمانے لگے: جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی اس  
 سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: میں نے دیکھا سرکارِ نامدار صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے وضو  
 فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا: جانتے ہو  
 میں کیوں مسکرایا؟ پھر سرکارِ نامدار صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خود ہی فرمایا: جب آدمی وضو  
 کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے اور ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور سر کا مسح  
 کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔<sup>[2]</sup>

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر ایک بار وُضُو پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔ (مسلم)

وُضُو کر کے خنداں ہوئے شاہِ عثمان | کہا: کیوں تبسّم بھلا کر رہا ہوں؟  
جوابِ سوالِ مخاطب دیا پھر | کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں  
صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

اے عاشقانِ صحابہ! دیکھا آپ نے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سرکارِ خیرِ الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر ادا اور ہر ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے۔ نیز اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ! وُضُو میں کلی کرنے سے منہ کے، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے ناک کے، چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے نیچے کے، سر (اور کانوں) کا مسح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔

### گناہ جھڑنے کی حکایت

الْحَمْدُ لِلَّهِ! وُضُو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں، اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وُضُو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وُضُو بناتے ہوئے دیکھا، اس سے وُضُو (میں استعمال شدہ پانی) کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے بیٹے! ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی: میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وُضُو (میں استعمال ہونے والے پانی) کے قطرے ٹپکتے دیکھے، آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا: اے میرے بھائی!

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اُس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر دُز و پاک نہ پڑھے۔ (ترمذی)

تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی: میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا: شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی: میں نے توبہ کی۔ امامِ اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عُیُوب ظاہر ہو جاتے تھے لہذا آپ رضی اللہ عنہ نے بارگاہِ خداوندی میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دُعا مانگی: اللہ پاک نے دُعا قبول فرمائی جس سے آپ رضی اللہ عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔<sup>[3]</sup>

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ! صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

سارا بدن پاک ہو گیا!

دو حدیثوں کا خلاصہ ہے: جس نے بِسْمِ اللّٰهِ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جنم پاک ہو گیا اور جس نے بغیر بِسْمِ اللّٰهِ کہے وضو کیا اُس کا اتنا ہی بدن پاک ہو گا جتنے پر پانی گزرا۔<sup>[4]</sup>

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ہریرہ! جب تم وضو کرو تو بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ کہہ لیا کرو جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اُس وقت تک تمہارے فرشتے (یعنی کراماتین) تمہارے لئے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔<sup>[5]</sup>

با وضو سونے کی فضیلت

حدیثِ پاک میں ہے: با وضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔<sup>[6]</sup>

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر درس مرتبہ دُرُودِ پاک پڑھے اللہ پاک اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ (طبرانی)

## باوُضُو مرنے والا شہید ہے

مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: بیٹا! اگر تم ہمیشہ باوُضُو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالتِ وُضُو میں قبض کرتا ہے اُس کے لئے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔<sup>71</sup>

فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں: ہمیشہ باوُضُو رہنا مستحب ہے۔<sup>[8]</sup>

## مُصِیبتوں سے حفاظت کا نسخہ

اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا: اے موسیٰ! اگر بے وُضُو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مُصِیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔<sup>[9]</sup>

”احمد رضا“ کے سات حُرُوف کی نسبت

سے ہر وقت باوُضُو رہنے کے 7 فضائل

میرے آقا امام اہلسنت امام احمد رضا خان حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بعض عارفین (رحمۃ اللہ علیہم) نے فرمایا: جو ہمیشہ باوُضُو رہے اللہ پاک اُس کو سات فضیلتوں سے مُشَرَّف فرمائے: ﴿1﴾ ملائکہ اس کی صحبت میں رُغبت کریں ﴿2﴾ قلم اُس کی نیکیاں لکھتا رہے ﴿3﴾ اس کے اَعْضَا تَسْبِیْح کریں ﴿4﴾ اُس سے تکبیرِ اُولی فُوت نہ ہو ﴿5﴾ جب سوئے اللہ کریم کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شَر سے اُس کی حفاظت کریں ﴿6﴾ سُنکراتِ موت اس پر آسان ہو ﴿7﴾ جب تک باوُضُو ہو امانِ الہی میں رہے۔<sup>[10]</sup>

## دُگنا ثواب

یقیناً سردی، تھکن یا نزلہ، زُکام، دُرُودِ سر اور بیماری میں وُضُو کرنا دشوار ہوتا ہے

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر دُورِ پاک نہ پڑھا تحقیق دُوبد بخت ہو گیا۔ (ابن سنی)

مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وُضُو کرے جبکہ وُضُو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکمِ حدیث دُگنا ثواب ملے گا۔<sup>[11]</sup>

## سردی میں وُضُو کرنے کی حکایت

حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام حُمران سے وُضُو کے لئے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے، حُمران کہتے ہیں: میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا: اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ”جو بندہ وُضُوئے کامل کرتا ہے اللہ پاک اُس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔“<sup>[12]</sup>

## وُضُوکَا طَرِيقَةُ (شَافِعِي)

کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اُونچی جگہ بیٹھنا اور وُضُو کی اِبْتِدَائِي سُنَّتیں ادا کرنے کی نیت کرنا سُنَّت ہے۔ یہ نیت نہ ہو تب بھی وُضُو ہو جائے گا مگر ان سُنَّتوں کی فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ نیتِ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کرنے سے پہلے نیت کے الفاظ کو زبان سے بھی کہہ لینا مستحب ہے لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں وُضُو کی سُنَّتوں کی نیت کرتا ہوں پھر تَعَوُّذُ یعنی اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور تسمیہ یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ پڑھئے۔ تسمیہ پڑھتے وقت دل میں نیت کیجئے اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کو دھونا بھی شروع کیجئے، دونوں ہاتھ تین تین بار پہنچوں سمیت دھویئے۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت یہ پڑھئے: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ الْبَاءَ طَهُورًا۔ تین تین بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک



فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اُس نے مجھ پر زُور دیا شریف نہ پڑھا اُس نے جفا کی۔ (عبدالرزاق)

حصے کو دھونا واجب نہیں۔ اگر احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو تین مرتبہ ہر بار نئے چُلُو سے (ئل بند کرنے کے بعد) اس طرح خِلال کیجئے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے گلے کی طرف سے داخل کیجئے اور سامنے کی طرف نکالنے اور زُخسار پر کانوں کے مقابل بالوں کو ملئے۔ جب احرام باندھے ہوئے ہوں اور خِلال کرنے سے بال نہ ٹوٹیں تو نرمی سے خِلال کیجئے ورنہ تڑک کر دیجئے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کہنیوں سمیت تین بار دھویئے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھولجئے۔ دونوں ہاتھ کندھوں تک دھونا سنت ہے۔ انگوٹھی کو حرکت دیجئے اور (ئل بند کر کے) تشبیک کی صورت میں (یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے) دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خِلال بھی کیجئے۔ اکثر لوگ چُلُو میں پانی لے کر پہنچے سے تین بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کہنی تک بہتا چلا جاتا ہے اس طرح کرنے سے کہنی اور گلانی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھویئے۔ اب چُلُو بھر کر کہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں بلکہ (بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا) یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب تین مرتبہ ہر بار ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے (ئل بند کرنے کے بعد) سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ انگوٹھے کنپٹیوں پر اور کلمے کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر سر کے ابتدائی حصے پر رکھئے اور بقیہ انگلیوں کے ساتھ کھینچتے ہوئے گدّی تک لے جائیئے، پھر اگر پلٹنے والے بال ہوں تو ان انگلیوں کو ویسے ہی گدّی سے کھینچتے ہوئے سر کے ابتدائی حصے تک لائیئے، اگر ایسے بال نہ ہوں تو گدّی تک لے جانا ہی کافی ہے۔ اگر سر پر عمامہ یا ٹوپی ہے تو ناصیہ (سر کے سامنے والے حصے) پر مسح کرنے کے بعد عمامہ یا ٹوپی پر مسح کرنا بھی کافی ہے۔ پھر تین مرتبہ ہر بار نئے پانی سے کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجئے پھر تین مرتبہ

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر روزِ جمعہ دُروِ شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اُس کی شفاعت کروں گا۔ (صحیح البخاری)

گلے کی انگلیوں کو پانی میں بھگو کر کانوں کے سوراخوں میں رکھئے اور تین مرتبہ ہتھیلیوں کو پانی میں بھگو کر کانوں پر رکھئے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے بلاوجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے اسراف ہے۔ پہلے سیدھا پھر اُلٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک بلکہ سنت ہے کہ پوری پنڈلی سمیت تین تین بار دھو لیجئے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ (خلال کے دوران نل بند رکھئے) اس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ اُلٹے ہاتھ کی چھنگلیا سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیا کا نیچے کی جانب سے خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجئے اور اُلٹے ہی ہاتھ کی چھنگلیا سے اُلٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیا پر ختم کر لیجئے۔

حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں: ہر عضو دھوتے وقت یہ اُمید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔<sup>[14]</sup>

وُضُو کے بعد ہاتھ اور نگاہ آسمان کی طرف اُٹھا کر قبلہ رُو تین مرتبہ پڑھے: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَابِيْنَ وَاَجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاَجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَدِّكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ۔

پھر ہاتھ نیچے کر کے قبلہ رُو تین بار سُوْرَةُ الْقَدْرِ پڑھے۔

وُضُو کے نیچے ہوئے پانی میں ہر بیماری سے شفا

لوٹے وغیرہ سے وُضُو کرنے کے بعد بچا ہو پانی پینے میں شفا ہے چنانچہ فتح المعین میں

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اُس نے مجھ پر دُرُودِ پاک نہ پڑھا اُس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ (طبرانی)

ہے: وُضُو کرنے کے بعد بچا ہو اپانی پیناسٹت ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے: وُضُو کے بچے ہوئے پانی میں ہر بیماری سے شفا ہے۔<sup>[15]</sup> علامہ عبدالغنی نابلسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے تجربہ کیا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وُضُو کے بقیہ (ب۔ تی۔ یہ) پانی سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحیح طبِ نبوی میں پائے جانے والے ارشادِ گرامی پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔<sup>[16]</sup>

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں

حدیثِ پاک میں ہے: جس نے اچھی طرح وُضُو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا اُس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس سے چاہے اندر داخل ہو۔<sup>[17]</sup>

نظر کبھی کمزور نہ ہو

جو وُضُو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ پڑھ لیا کرے ان شاء اللہ! اُس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔<sup>[18]</sup>

وُضُو کے بعد تین بار سورہ قَدْر پڑھنے کے فضائل

حدیثِ مبارک میں ہے: جو وُضُو کے بعد ایک مرتبہ سُورَةُ الْقَدْرِ پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے اور جو دو مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے اور جو تین مرتبہ پڑھے گا تو اللہ کریم میدانِ محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔<sup>[19]</sup>

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: مجھ پر زور و پاک کی کثرت کرو بے شک مجھ پر زور و پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ (بیہقی)

## وُضُو کے بعد پڑھنے کی دُعا

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اے اللہ! مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔

## وُضُو کے بعد یہ بھی پڑھ لیجئے

جو وُضُو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھے: ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔“ ترجمہ: اے اللہ! تو پاک ہے اور تیرے لئے ہی تمام خوبیاں ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔“

تو اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس پڑھنے والے کو دے دیا جائے گا۔<sup>[20]</sup>

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

## وُضُو کے 6 فرائض

﴿1﴾ نیت کرنا: ﴿﴾ وُضُو کرنے والا وُضُو کے فرض ادا کرنے یا حادثہ دُور کرنے وغیرہ کی نیت کرے۔ ﴿﴾ چہرے کا پہلا حصہ دھوتے وقت دل میں یہ نیت ہونا فرض ہے۔ ﴿﴾ چہرے کا کچھ حصہ دھلنے کے بعد نیت کی توجو حصہ نیت سے پہلے دُھل چکا تھا، اسے دوبارہ دھونا ہو گا۔ ﴿2﴾ چہرہ دھونا ﴿3﴾ کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا ﴿4﴾ سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا ﴿5﴾ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا ﴿6﴾ فرائض میں ترتیب قائم رکھنا (یعنی فرض اعضا

فرمانِ مصطفیٰ سے: "مَنْ دَانَ رِجْلَيْهِ جَسَّ كَيْفَ جَسَّ رِجْلَيْهِ" (مسنہ احمد)

میں پہلے منہ پھر ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا پھر سر کا مسح کرنا اور پھر دونوں پاؤں دھونا۔<sup>[21]</sup>

## دھونے کی تعریف

کسی عُضْو (عُضْو۔ و) کو دھونے کے یہ معنی ہیں کہ اس عُضْو کے ہر حصے پر پانی بہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے کو دھونا نہیں کہیں گے نہ اس طرح وُضُو یا عُشَل ادا ہوگا۔<sup>[22]</sup>

## وُضُو کی 44 سننیں

”وُضُو کا طریقہ (شافعی)“ میں بعض سننوں کا بیان ہو چکا ہے اس کی مزید وضاحت ملاحظہ فرمائیے: ﴿ قبلہ رُو ﴾ ایسی اونچی جگہ کہ پانی کے چھینٹے اڑ کر اس تک نہ پہنچ سکیں ﴿ بیٹھنا ﴾ وُضُو کی سننوں کی نیت کرنا اور زبان سے نیت کے الفاظ کہنا۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اور بِسْمِ اللّٰهِ پڑھتے وقت یہ نیت دل میں حاضر رکھے۔ ﴿ اَعُوذُ بِاللّٰهِ ﴾ بِسْمِ اللّٰهِ ﴿ اور کلمہ شہادت پڑھنا، کلمہ شہادت کے بعد حمدِ الہی بیان کرنا ﴿ دونوں ہاتھ ایک ساتھ پہنچوں سمیت دھونا ﴾ مَسْوَاک کرنا ﴿ کُلِّ کرنا ﴾ ناک میں پانی چڑھانا ﴿ کُلِّ کرنا ﴾ اور ناک میں پانی چڑھانے کو تین چلوؤں کے ساتھ جمع کرنا ﴿ روزہ نہ ہو تو کُلِّ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے میں مُبَالَغَةٌ کرنا کہ تالو کے آخری حصے تک اور ناک کی جڑ تک پانی پہنچ جائے ﴿ اُلَّے ہاتھ کی چھنگلیاں ناک میں ڈال کر ناک صاف کرنا ﴿ چہرہ کو اوپر سے دھونا شروع کرنا ﴿ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ چہرہ دھونا ﴿ آنکھوں کے کونے صاف کرنا جب کہ ان میں میل نہ ہو، اگر میل ہو اور اسے صاف کئے بغیر نیچے پانی نہیں بہتا تو اسے صاف کر کے پانی بہانا فرض ہے۔ دائیں آنکھ کے کونے دائیں ہاتھ اور بائیں آنکھ کے کونے بائیں ہاتھ کی

فرمانِ مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تم جہاں بھی ہو مجھ پر ذرود پڑھو کہ تمہارا ذرود مجھ تک پہنچتا ہے۔ (طبرانی)

کلمے کی انگلیوں سے صاف کیجئے۔ اسی طرح ہر اس جگہ کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھئے جس کے دھلنے سے رہ جانے کا اندیشہ ہو (جیسے ٹخنے، ایڑیاں، تلوے، کونچے یعنی ایڑیوں کے اوپر موٹے پٹھے، گھائیاں یعنی انگلیوں کے درمیان والی جگہیں اور کہنیاں) \* منہ پر پانی نہ مارنا \* گھنٹی داڑھی اور رُخسار کے گھنے بالوں کا خلال کرنا \* چہرے اور \* ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا یعنی جتنی جگہ پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا، چہرہ دھونے میں اس کی حد یہ ہے کہ چہرے کے ساتھ سر کا اگلا حصہ، دونوں کان اور گردن کا اوپری حصہ بھی دھوئے اور ہاتھ پاؤں میں حد یہ ہے کہ کہنی سے اوپر پورا بازو اور ٹخنے سے اوپر پوری پنڈلی دھوئے \* پانی بہاتے وقت اعضا کو ملنا \* ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا \* ہاتھ اور \* پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا \* پہلے سیدھا پھر الٹا ہاتھ اور پاؤں دھونا \* انگوٹھی کو حرکت دینا جب کہ ڈھیلی ہو اور یہ یقین ہو کہ اس کے نیچے پانی بہ گیا ہے، اگر سخت ہو تو حرکت دے کر انگوٹھی کے نیچے پانی بہانا فرض ہے \* پورے سر کا مسح کرنا \* کانوں کا مسح کرنا \* وضو کے آخر تک نیت وضو کا حاضر رہنا \* پے درپے وضو کرنا یعنی ہوا، مزاج، موسم اور جگہ کے مُعْتَدِل ہونے کے ساتھ ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھونا شروع کر دینا۔ دَائِمُ الْحَدِث (یعنی جس کا وضو نہ رہتا ہو) اور جس پر نماز کا وقت تنگ ہوا نہیں پے درپے وضو کرنا فرض ہے \* دھونا، مسح کرنا، ملنا، خلال کرنا، مسواک کرنا اور اذکار پڑھنا، ان سب کاموں کو تین تین مرتبہ کرنا \* وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکیں کہ شیطان کا پنکھا ہے \* اَعْضَاءُ وَضُو بِلَا ضَرُورَتٍ نَهْ پونچھئے \* بِلَا ضَرُورَتٍ بَاتٍ نَهْ کیجئے \* اِسْرَافٍ سَهْ بَحْتِیْ اِگَر چہ نہر کے کنارے ہوں \* کَمَ سَهْ کَمَ اِیکَ مَدِ پَانی سَهْ وَضُو کرنا

فرمانِ مصطفیٰ ﷺ: جو لوگ اپنی مجلس سے اٹھ کے (کراؤ) نبی پر رُز و شریف پڑھے بغیر اُٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اُٹھے۔ (عقب زیمان)

✽ بعدِ وضو میاں (یعنی پا جامے کا وہ حصہ جو پیشاب گاہ کے قریب ہوتا ہے) پر پانی چھڑکنا (پانی چھڑکتے وقت میاں کو گرتے کے دامن میں چھپائے رکھنا مناسب ہے نیز وضو کرتے وقت بھی بلکہ ہر وقت پردے میں پردہ کرتے ہوئے میاں کو گرتے کے دامن یا چادر وغیرہ کے ذریعے چھپائے رکھنا حیا کے قریب ہے) ✽ برتن سے وضو کرنے کی صورت میں بچے ہوئے پانی میں سے پینا ✽ وضو کرنے میں بغیر ضرورت کسی سے مدد نہ لینا ✽ وضو کے بعد ہاتھ اور نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر قبلہ رُو یہ کلمات پڑھنا: **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ** ✽ وضو کے بعد سورہ قدر اور ✽ دو رکعت نماز بھی پڑھے۔ زیادہ وقت گزر جانے سے وضو کے بعد کی دو رکعت نماز فوت ہو جاتی ہے۔<sup>[23]</sup>

### وضو کے 10 مکروہات

✽ کلی نہ کرنا ✽ ناک میں پانی نہ چڑھانا<sup>[24]</sup> ✽ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا<sup>[25]</sup>  
 ✽ روزہ دار کا زوال کے بعد مسواک کرنا<sup>[26]</sup> ✽ روزہ دار کا کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مُبالغہ کرنا ✽ تین سے زیادہ مرتبہ دھونا یا مسح کرنا ✽ تین سے کم مرتبہ دھونا یا مسح کرنا ✽ بلا ضرورت کسی سے مدد لینا ✽ اُلٹے ہاتھ یا اُلٹے پاؤں کو سیدھے سے پہلے دھونا<sup>[27]</sup> ✽ گھنی داڑھی کا خلال نہ کرنا۔<sup>[28]</sup>

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر روز جمعہ دو سو بار دُرو پاک پڑھا اُس کے دو سو سال کے گناہ مُعاف ہوں گے۔ (بخاری و ابن ماجہ)

## دھوپ کے گرم پانی کی وضاحت

جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل بلکہ کسی بھی طرح بدن یا پہنے ہوئے کپڑوں کے استعمال میں لانا مکروہِ تنزیہی ہے کہ اس پانی کے استعمال میں برص (یعنی بدن پر سفید داغ کا اندیشہ) ہے، پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا۔<sup>[29]</sup>

## مُستعملِ پانی کا آہم مسئلہ

اگر بے وضو شخص نے وضو میں چہرہ دھونے کے بعد اپنا ہاتھ یا جُنبی نے غسل کی نیت کے بعد جسم کا کوئی حصہ دو قلوں (191 کلوگرام) سے کم پانی (مثلاً پانی سے بھری ہوئی بالٹی یا بوتل) میں داخل کیا اور ان کی نیت چلو بھرنے کی نہ تھی تو عضو سے جدا ہوتے ہی پانی مُستعمل (یعنی استعمال شدہ) ہو گیا اور اب وضو یا غسل کرنے اور نجاست دُور کرنے کے لائق نہ رہا۔<sup>[30]</sup>

ہاں! جو پانی مسنون طہارت میں استعمال ہوا جیسے (وضو اور غسل میں) دوسری اور تیسری مرتبہ دھونے میں استعمال ہوا یا با وضو شخص نے دوبارہ وضو کیا یا سنت غسل کیا تو (وہ پانی شرعاً مُستعمل یعنی استعمال شدہ نہیں) اس سے وضو یا غسل کرنا اور نجاست دُور کرنا صحیح ہے۔<sup>[31]</sup>

## مٹی ملے پانی سے وضو ہو گا یا نہیں

✽ ایسی پاک چیز جس سے پانی کو بچانا ممکن ہے جیسے زعفران اور پہاڑی نمک، اگر اس کے پانی میں گھل جانے سے پانی میں اتنی زیادہ تبدیلی ہوئی کہ بغیر کسی قید کے اسے ”پانی“ نہیں کہا جاسکتا (اس طرح کہ ذائقہ، رنگ اور بو میں سے پانی کی کوئی ایک صفت تبدیل ہو گئی)<sup>[32]</sup> تو وہ پانی غیر مُطہّر ہے (اس سے طہارت نہ ہوگی) اور اگر تبدیلی اتنی کم ہے کہ اسے بغیر کسی قید

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: مجھ پر دُرُودِ شریف پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ (ابن عدی)

کے ”پانی“ کہا جاتا ہے تو اس سے طہارت ہو جائے گی۔ \*گیلی مٹی، کائی اور جو چیز پانی کے ٹھہرنے اور گزرنے کی جگہ میں ہو اس کے پانی میں ملنے سے یا زیادہ عرصے تک ایک ہی جگہ کھڑے رہنے سے پانی میں تبدیلی واقع ہوئی تو اس سے طہارت ہو جائے گی اگرچہ وہ تبدیلی زیادہ ہو کیونکہ اس سے پانی کو بچانا مشکل ہے<sup>[331]</sup> (نیز پانی میں اس طرح کی تبدیلی سے بغیر کسی قید کے اسے ”پانی“ ہی کہا جاتا ہے<sup>[311]</sup>)۔

### تصوُّف کا عظیم مدنی نسخہ

حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وضو سے فراغت کے بعد جب آپ نماز کی طرف متوجہ ہوں اُس وقت یہ تصوُّر کیجئے کہ جن ظاہری اعضاء پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ تو بظاہر طاہر (یعنی پاک) ہو چکے مگر دل کو پاک کئے بغیر بارگاہِ الہی میں مناجات کرنا حیا کے خلاف ہے کیوں کہ اللہ پاک دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں: ظاہری وضو کر لینے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ دل کی طہارت (یعنی صفائی) توبہ کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ جو شخص دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا فقط ظاہری طہارت (یعنی صفائی) اور زیب و زینت پر اکتفا کرتا ہے اُس کی مثال اُس شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو مدعو کرتا ہے اور اپنے گھر کو باہر سے خوب چمکاتا ہے اور رنگ و روغن کرتا ہے مگر مکان کے اندرونی حصے کی صفائی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اب ایسی صورت میں جب بادشاہ اُس کے مکان کے اندر آ کر گندگیاں دیکھے گا تو وہ ناراض ہو گا یا راضی یہ ہر ذی شعور خود سمجھ سکتا ہے۔<sup>[35]</sup>

فرمانِ مصطفیٰ ﷺ: دُضُو سے دُضُو پاک پڑھو بے شک تمہارا بھوہر دُضُو پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ (سنن مسند)

اگر جسم کے کسی حصے پر زخم ہو تو ...

✽ اگر اعضاءِ دُضُو میں کسی جگہ بیماری یا زخم ہے اور پانی کے استعمال سے نقصان مثلاً دیر سے اچھا ہونے کا ڈر ہے تو تیمم کرے اور جس صحیح حصے کا دھونا ممکن ہے اسے دھوئے اور زخم کے قریب والے حصے کو کپڑے کا ٹکڑا بھگو کر نرمی کے ساتھ دھوئے تاکہ پانی بہ کر زخم والی جگہ نہ چلا جائے۔ ✽ زخم والی جگہ اگر محلِ تیمم میں ہے اور اس پر مٹی سے مسح کرنے میں کسی نقصان کا ڈر نہیں تو اس پر مسح واجب ہے۔ ✽ تیمم اس وقت ہونا ضروری ہے جب زخم والے عضو کو دھویا جانا ہے کیونکہ دُضُو میں ترتیب فرض ہے لہذا جب تک ایک عضو کو دھونے اور اس کے زخم والے حصے کی طرف سے تیمم نہ کر لے تب تک دوسرے عضو کی طرف نہ جائے چنانچہ اگر ہاتھ پر زخم ہے تو چہرہ دھونے کے بعد اور سر کا مسح کرنے سے پہلے تیمم کیا جائے گا اور اگر چہرے پر زخم ہے تو کہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے پہلے تیمم کرنا ہوگا، ایک ہی عضو کو دھونے اور اس کے زخم والے حصے کی طرف سے تیمم میں جسے چاہے پہلے کر سکتے ہیں البتہ مستحب یہ ہے کہ پہلے تیمم کرے اور پھر عضو کے صحیح حصے کو دھوئے۔<sup>361</sup>

دُضُو میں مہندی وغیرہ کا مسئلہ

✽ اگر کسی عضو پر موم، گوندھا ہوا آٹا، مہندی یا اس جیسی کوئی چیز ہو تو یہ نیچے جلد تک پانی کو پہنچنے سے روکے گی لہذا اسے صاف کئے بغیر دُضُو اور غسل نہ ہو گا خواہ وہ چیز کم ہو یا زیادہ۔ ✽ اگر ہاتھ وغیرہ پر مہندی کا صرف نشان اور رنگ ہے یا تیل کا اثر باقی ہے کہ پانی عضو کی جلد کو چھوتا ہے اور اس پر بہتا ہے اگرچہ ٹھہرتا نہیں تو دُضُو اور غسل ہو جائے گا۔<sup>371</sup>

فرمانِ مصطفیٰ ﷺ: ماہ: بل: جس نے کتاب میں مجھ پر رُوڑ و پُک کھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار لائیں جتنی بار کہتے رہیں گے۔ (صحیح)

## عُضْوِ پر پانی کو تبدیل کرنے والی چیز ہو تو...

اعضائے وُضُو میں سے کسی عُضْوِ پر زعفران اور صابون وغیرہ ایسی چیز نہ ہو جو پانی کو اتنا زیادہ تبدیل کر دے کہ اسے بغیر قید کے ”پانی“ نہ کہا جاسکے<sup>38</sup> ورنہ وُضُو نہ ہوگا۔

کیا ستر دیکھنے سے وُضُو ٹوٹ جاتا ہے؟

عوام میں مشہور ہے کہ گھٹنا یا ستر کھلنے یا اپنا یا پر ایسا ستر دیکھنے سے وُضُو ٹوٹ جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں! بلا حاجت ستر نہ کھولا جائے اگرچہ تنہائی میں ہو کیونکہ ”تنہائی میں بھی بلا حاجت ستر کھولنا حرام ہے۔“<sup>39</sup>

## عُغْسَل کا وُضُو کافی ہے

\* جب کسی بے وُضُو شخص پر عُغْسَل واجب ہو اور وہ جنابت دور کرنے کی نیت سے عُغْسَل کر لے تو وُضُو بھی ہو جائے گا۔<sup>[40]</sup> \* اگر اعضائے وُضُو میں کسی عُضْو کے دُھلنے کے بعد وُضُو توڑنے والی کوئی بات پائی گئی تو اب وُضُو کی نیت کے ساتھ ترتیب سے وُضُو کرنا ہوگا۔<sup>[41]</sup>

## عورت کو چھونے سے وُضُو ٹوٹنے کے مسائل

\* دو بڑے اجنبی مرد و عورت کی جلد کے آپس میں ملنے سے دونوں کا وُضُو ٹوٹ جاتا ہے خواہ شہوت ہو یا نہ ہو، خواہ قصداً (یعنی جان بوجھ کر) ہو یا بلا قصد۔ \* جو نسب، رضاعت یا مُصَاهَرَت کے اعتبار سے حَرَم ہو اس کو چھونے سے وُضُو نہیں ٹوٹتا۔ \* چھوٹی بچی جو سَلِيمُ الطَّبَع (یعنی صاف ستھری طبیعت والے) افراد کے نزدیک عام طور پر حدِ شہوت کو نہیں پہنچتی اسے چھونے سے بھی وُضُو نہیں ٹوٹے گا۔ \* جلد کے علاوہ کسی اور حصے یعنی بال، دانت، ناخن اور آنکھ کے اندرونی حصے کو چھونے نیز دو مردوں یا دو عورتوں کی جلد کے

فرمانِ مصطفیٰ علیہ السلام: بار و بار 50 بار دُرو پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مُصافحہ کروں (یعنی تھوڑا سا گلاب (ابن ماجہ))

آپس میں ملنے سے بھی وُضُو نہیں جائے گا۔ \* چھونے میں کوئی چیز حائل ہو اگرچہ باریک ہو تب بھی وُضُو نہیں جائے گا۔<sup>[42]</sup>

### وُضُو میں شک آنے کے 3 احکام

\* اگر دورانِ وُضُو کسی عَضُو کے دھونے میں شک واقع ہو تو اس عَضُو کو دھو کر اس کے بعد والے اعضا کو بھی دھویئے کیونکہ وُضُو میں ترتیب فرض ہے۔ \* اگر وُضُو کے بعد کسی عَضُو کے دھونے میں شک واقع ہو تو کچھ لازم نہیں۔<sup>[43]</sup> \* جسے وُضُو کرنے (کا یقین ہے اور ٹوٹنے کا شک ہے تو وہ با وُضُو ہے) یا وُضُو ٹوٹنے کا یقین ہے اور دوبارہ وُضُو کرنے میں شک ہے تو (وہ بے وُضُو ہے دونوں صورتوں میں) اسے جس بات کا یقین ہے اس کے مطابق عمل کرے۔<sup>[44]</sup>

### کیا ستر کو چھونے سے وُضُو ٹوٹ جاتا ہے؟

\* ہتھیلی کے اندرونی حصے سے اپنی یا کسی اور کی شرم گاہ کو چھوا، خواہ جان بوجھ کر چھوا ہو یا بھول کر، اگلا مقام ہو یا پچھلا، صحیح ہو یا فالج زدہ، مُتَّصِل ہو یا کٹ کر جدا اگرچہ میت یا چھوٹے بچے کی شرم گاہ ہو اور بغیر شہوت کے چھوا ہو، ہر صورت میں چھونے والے کا وُضُو ٹوٹ جائے گا۔ \* موئے زیرِ ناف، اُنْثِیْنِیْنِ یعنی فوطوں اور سُرین کے اندرونی حصے جو کھڑے ہونے کی صورت میں آپس میں مل جاتے ہیں ان کو چھونے سے وُضُو نہیں ٹوٹے گا۔ \* اُنْکَلِیْبُوں کے سروں، ان کے درمیانی حصوں اور کناروں نیز ہتھیلی کے کناروں کے ذریعے شرم گاہ کو چھونے سے وُضُو نہیں ٹوٹتا۔<sup>[45]</sup>

### سونے سے وُضُو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا بیان

\* نیند سے وُضُو ٹوٹ جاتا ہے مگر ایسی حالت پر سو یا کہ سُرین زمین یا کسی جانور کی پیٹھ

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: ہر روز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہو گا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ دروپاک پڑھے ہو گئے۔ (ترمذی)

وغیرہ پر جمے ہوئے ہوں تو وُضُو نہیں ٹوٹے گا۔ ﴿جب سویا تھا تو سُرین اپنی جگہ اچھی طرح جمے ہوئے تھے لیکن بیدار ہونے سے پہلے ان میں سے ایک اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو وُضُو ٹوٹ گیا۔ ﴿چت یعنی پیٹھ کے بل سونے سے وُضُو ٹوٹ جائے گا اگرچہ سُرین زمین سے ملے ہوئے ہوں۔ ﴿مُحْض او نگھ سے وُضُو نہیں ٹوٹے گا، اس کی علامت یہ ہے کہ حاضرین کی گفتگو سنائی دی ہو اگرچہ سمجھ نہ آئی۔ ﴿جسے شک ہو کہ پتا نہیں سویا تھا یا او نگھ آئی تھی، سُرین جمے ہوئے تھے یا نہیں، بیدار ہونے سے پہلے سُرین اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا یا بعد میں تو اس کا وُضُو نہیں ٹوٹا۔ ﴿جب سویا تھا سُرین جمے ہوئے تھے اور بیدار ہونے پر کسی عادل شخص نے نیند کی حالت میں اس کی ریح خارج ہونے کا بتایا تو اس کے قول کو لینا واجب ہے (یعنی اس کا وُضُو ٹوٹ چکا ہے)۔ [47]

### انبیائے کرام کا وُضُو اور نیند مبارک

انبیاء علیہم السلام کا وُضُو سونے سے نہیں جاتا۔ [48] فائدہ: انبیاء علیہم السلام کی آنکھیں سوتی ہیں دل کبھی نہیں سوتا۔ [49] ﴿بعض وُضُو توڑنے والی چیزیں انبیاء علیہم السلام کے لیے وُضُو ٹوٹنے کا سبب نہیں کیونکہ ان کا انبیاء علیہم السلام سے واقع ہونا ہی ناممکن ہے جیسے جُنُون (یعنی پاگل پن)۔ [50] ﴿بے ہوشی جو طویل نہ ہو وہ بھی انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے جسم ظاہر پر طاری ہو سکتی ہے لیکن دل مبارک اس حالت میں بھی بیدار و خبردار رہتے ہیں۔ [51]

### مساجد کے وُضُو خانے

مسواک کرنے سے بعض اوقات دانتوں میں خون آجاتا ہے، مساجد کے وُضُو خانے بھی اکثر کم گہرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کُلی کے چھینٹے کپڑوں یا بدن پر پڑتے ہیں، نیز

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں دس نیکیاں لکھتا ہے۔ (ترمذی)

گھر کے حمام کے پختہ فرش پر وضو کرتے وقت اس سے بھی زیادہ چھینٹے پڑتے ہیں۔

### گھر میں وضو خانہ بنوائیے

آج کل بیسین (ہاتھ دھونے کی کونڈی) پر کھڑے کھڑے وضو کرنے کا رواج ہے جو کہ خلاف سنت ہے۔ افسوس! لوگ آسائشوں بھری بڑی بڑی کوٹھیاں تو بناتے ہیں مگر اس میں وضو خانہ نہیں بنواتے! سنتوں کا درد رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں مدنی التجا ہے کہ ہو سکے تو اپنے مکان میں کم از کم ایک ٹونٹی کا وضو خانہ ضرور بنوائیے۔ اس میں یہ احتیاط ضرور رکھئے کہ ٹونٹی کی دھار براہ راست فرش پر گرنے کے بجائے ڈھلوان پر گرے ورنہ دانتوں میں خون وغیرہ آنے کی صورت میں بدن یا لباس پر چھینٹے اڑنے کا مسئلہ رہے گا، اگر آپ محتاط وضو خانہ بنوانا چاہتے ہیں تو اسی رسالے کے پیچھے دیئے ہوئے نقشے سے رہنمائی حاصل کیجئے۔ \* ڈبلیو سی (W.C.) میں پانی سے استنجا کرنے کی صورت میں عموماً دونوں پاؤں کے ٹخنوں کی طرف چھینٹے آتے ہیں لہذا فراغت کے بعد احتیاطاً پاؤں کے یہ حصے دھولینے چاہئیں۔

### وضو خانہ بنوانے کا طریقہ

ایک نل کے گھریلو وضو خانے کی کل مساحت یعنی لمبائی 42.5 انچ اور چوڑائی 48.75 انچ، اونچائی زمین سے 13.75 انچ، اس کے اوپر مزید 7.5 انچ اونچی نشست گاہ (Seat) جس کا عرض (یعنی چوڑائی) 32.5 انچ اور لمبائی ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک یعنی زینے کی مانند، اس نشست گاہ اور سامنے کی دیوار کا درمیانی فاصلہ 25 انچ، آگے کی طرف اس طرح ڈھلوان (Slope) بنوائیے کہ نالی 7.5 انچ سے زیادہ نہ ہو، پاؤں رکھنے

فرہان مصطفیٰ سنی ائمہ، والدہ مطرہ شیب جعد اور زوجہ مجھ پر ذرود کی کثرت کر لیا کرو جو ایسا امریکہ قیامت کے دن میں اسکا شیخ دو گواہوں گا۔ (شعب الایمان)

کی جگہ قدم کی لمبائی سے معمولی سی زیادہ مثلاً کل 11.25 انچ ہو اور اس ساری جگہ کا اگلا حصہ 4.5 انچ کھر در رکھئے تاکہ رگڑ کر پاؤں کا میل (خصوصاً سردیوں میں) چھڑایا جاسکے۔ L (ایل) یا u (یو) ساخت کا ”مکسچر نل“ نالی کی زمین سے 32 انچ اوپر ہو، نل کی ترکیب اس طرح رکھئے کہ پانی کی دھار ڈھلوان (Slope) پر گرے اور آپ کے لئے دانتوں کے خون وغیرہ نجاست سے بچنا آسان ہو۔ حسب ضرورت ترمیم کر کے مساجد میں بھی اسی ترکیب سے وضو خانہ بنوایا جاسکتا ہے۔

نوٹ: اگر ٹائلز لگوانی ہوں تو کم از کم ڈھلوان میں سفید رنگ کی لگوائیے تاکہ مسواک کرنے میں اگر دانتوں سے خون آتا ہو تو تھوک وغیرہ میں نظر آجائے۔

”یار سولِ خدا“ کے نو حروف کی نسبت

سے وضو خانے کے 9 مدنی پھول

﴿1﴾ ممکن ہو تو اسی رسالے کے پیچھے دیئے ہوئے نقشے سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے گھر میں وضو خانہ بنوایئے۔

﴿2﴾ (معمار کے دلائل سے بغیر) دیئے ہوئے نقشے کے مطابق بنے ہوئے گھریلو وضو خانے کے بالائی (یعنی پاؤں رکھنے والے) فرش کی ڈھلوان (Slope) دو انچ رکھئے۔

﴿3﴾ اگر ایک سے زیادہ نل لگوانے ہوں تو دونوں کے درمیان 25 انچ کا فاصلہ رکھئے۔

﴿4﴾ وضو خانے کی ٹونٹی میں حسب ضرورت کپڑا یا پلاسٹک کی نیل لگالیجئے۔

﴿5﴾ اگر پائپ دیوار کے باہر سے لگوائیں تو نشست گاہ ضرور تا ایک یا دو انچ مزید دُور کر لیجئے۔

﴿6﴾ بہتر یہ ہے کہ کچا کام کروا کر ایک آدھ بار اُس پر بیٹھ کر یا وضو کر کے اچھی طرح دیکھ

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر ایک بار دُور و دُشتر پڑھتا ہے اللہ اُس کے لیے ایک قیراط اجر لکھتا اور قیراط اُخر پہاڑ جتنا ہے۔ (مہارون)

لینے کے بعد پختہ کروائیے۔

﴿7﴾ وضو خانے یا حمام وغیرہ کے فرش پر ٹائلز لگوانے ہوں تو کھر درے (Slip resistance tiles) لگوائیے تاکہ پھسلنے کا خطرہ کم ہو جائے۔

﴿8﴾ پاؤں رکھنے کی جگہ کا سیرا (یعنی کنارہ) اور اس کی ڈھلان کے کم از کم دو دو انچ حصے پر ٹائلز نہ ہو بلکہ وہ حصہ سیمنٹ سے کھر درا اور گول بنوایے تاکہ ضرورتاً پاؤں رگڑ کر میل چھڑایا جاسکے۔

﴿9﴾ باورچی خانہ، غسل خانہ، بیت الخلاء کا فرش، گھلا صحن، چھت، مسجد کا وضو خانہ اور جہاں جہاں پانی بہانے کی ضرورت پڑتی ہے ان مقامات کے فرش کی ڈھلوان (Slope) معمار جو بتائے اُس سے بلا جھجک ڈیڑھ گنا (مثلاً وہ دو انچ کہے تو آپ تین انچ) رکھوایے۔ معمار تو یہی کہے گا کہ آپ فلر مت کیجئے ایک قطرہ بھی پانی نہیں رُکے گا اگر آپ اس کی باتوں میں آگئے تو ہو سکتا ہے ڈھلوان برابر نہ بنے لہذا اُس کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے تو ان شاء اللہ اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے کیوں کہ مشاہدہ یہی ہے کہ اکثر فرش وغیرہ پر جگہ جگہ پانی کھڑا رہتا ہے۔

جن کا وضو نہ رہتا ہو ان کے لئے 9 احکام

اگر کسی کو اس طرح کا مرض ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مثلاً قطرے آتے ہیں اور اسے نماز کے وقت میں اتنی مہلت نہیں ملتی کہ طہارت حاصل کر کے نماز ادا کر لے تو وہ ”دائم الحدث“ ہے۔ اس کے لئے وضو اور نماز کے تعلق سے کچھ خاص احکام ہیں جو تندرست افراد کے احکام سے مختلف ہیں چنانچہ،

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جب تم رسولوں پر ڈرود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ (صحیح ابواحمد)

﴿1﴾ نجاست کو دُور کرے۔

﴿2﴾ شرم گاہ پر روئی یا اس جیسی کوئی چیز رکھ کر باندھ دے تاکہ نجاست بالکل ختم یا کچھ کم ہو جائے۔

﴿3﴾ پھر وضو کرنے یا نماز وغیرہ ایسی عبادت ادا کرنے کی نیت سے وضو کرے جو بے وضو دُرُسْت نہیں ہوتی۔ اسے حَدَث کو دُور کرنے یا طہارت حاصل کرنے کی نیت کرنا دُرُسْت نہیں کیونکہ حَدَث مسلسل جاری ہے اور جب تک شرم گاہ سے نجاست خارج ہونا رُک نہیں جاتی حَدَث دُور نہیں ہو سکتا۔

﴿4﴾ یہ سب کام (یعنی نجاست دُور کرنا، شرم گاہ پر روئی رکھ کر باندھنا اور وضو) نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ہونے چاہئے، اگر کوئی چیز وقت سے پہلے کر لی تو شرعاً اس کا اِعْتِبَار نہیں، وقت شروع ہونے کے بعد دوبارہ کرے ورنہ نماز نہ ہوگی۔

﴿5﴾ دَائِمُ الْحَدَث پر ان مذکورہ کاموں کو پے درپے کرنا بھی فَرَض ہے تاکہ جتنا ہو سکے حَدَث کم ہو۔

﴿6﴾ اس کے لئے ضروری ہے کہ وضو کے بعد نماز پڑھنے میں جلدی کرے اگر تاخیر کی اور تاخیر کا سبب نماز کی مصلحت نہ ہو مثلاً کھانا کھایا، تو مذکورہ سب کام دوبارہ کرنے ہوں گے اگرچہ پٹی اپنی جگہ برقرار ہو اور اس پر نجاست بھی ظاہر نہ ہوئی ہو اور اگر مصلحتِ نماز کے لئے تاخیر ہوئی جیسے اذان کا جواب دینے، قبلہ تلاش کرنے، سترِ عورت، جُمُعہ اور جماعت کا اِنْتِظَار کرنے وغیرہ کمالات جو نماز کے متعلق اور اس کے لئے مطلوب ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔

﴿7﴾ دَائِمُ الْحَدَث پر ہر فَرَض کے لئے جداگانہ طور پر یہ کام کرنے واجب ہیں۔ اسے ایک

فرمانِ معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: مجھ پر دُرو پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا دُرو پڑھنا روزِ قیامت تمہارے لیے نور ہو گا۔ (ذہبی، بخاری)

وضو کے ساتھ دو فرض پڑھنا جائز نہیں۔ ہاں! ایک فرض نماز کے ساتھ جتنے نوافل چاہے پڑھ سکتا ہے۔<sup>[52]</sup>

﴿8﴾ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے حدت رُک جاتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا واجب ہے اور اس حالت میں پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ بھی ضروری نہیں۔<sup>[53]</sup>

﴿9﴾ جس کے زخم ہے اور اس سے مسلسل خون جاری ہے تو اس پر لازم ہے کہ ہر فرض نماز کے لئے زخم کو دھو کر پٹی باندھے البتہ وضو ضروری نہیں۔<sup>[54]</sup>

### پانچ متفرق احکام

- ﴿1﴾ منی کے علاوہ کوئی چیز جیسے پیشاب، پاخانہ، ہوا، کیرا، پتھری آگے یا پیچھے سے نکلی تو وضو جاتا رہا۔ ﴿2﴾ میت کے بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے اس کی طہارت ختم نہیں ہوتی، ہاں! اس سے نجاست دُور کرنا واجب ہے۔ ﴿3﴾ نشہ، جُنُون، بے ہوشی یا نیند کے باعث عقل زائل ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے البتہ جو اچھی طرح سُمرین کو جما کر سویا ہو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔<sup>[55]</sup> ﴿4﴾ قے، فُصْد (رگ کھول کر گند اخون نکالنے کے عمل)، نکسیر، نماز میں قہقہہ لگانے اور اونٹ کا گوشت کھانے وغیرہ سے وضو نہیں جائے گا۔<sup>[56]</sup>
- ﴿5﴾ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ”خنزیر“ کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔

بے وضو قرآنِ پاک کو چھونا حرام ہے

- ﴿1﴾ بے وضو کو نماز پڑھنا، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر، طواف، قرآنِ پاک اٹھانا، اس کے صفحے اور جلد کو چھونا، جس جُزدان اور صندوق میں قرآنِ پاک ہو اور وہ صرف قرآنِ پاک رکھنے کے لئے تیار کئے گئے ہوں، انہیں چھونا نیز وہ چیز جس میں تعلیم دینے یا پڑھنے

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: شبِ جمعہ اور روزِ جمعہ مجھ پر کثرت سے ڈرود پڑھو کیونکہ تمہارا ڈرود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ (عمرانی)

- کے لئے قرآنِ پاک کی آیت کا کچھ حصہ بھی لکھا گیا اسے اٹھانا اور چھونا حرام ہے۔ ﴿2﴾ جو تعلیم دینے یا پڑھنے کی نیت سے نہیں لکھا گیا جیسے تعویذات پر لکھا ہوا ہوتا ہے اسے بے وضو چھونا اور اٹھانا جائز ہے۔ ﴿3﴾ بے وضو شخص لکڑی سے قرآنِ پاک کے اوراق پلٹ سکتا ہے۔ ﴿4﴾ جس میں قرآن سے زیادہ تفسیر ہو اسے بے وضو چھونا اور اٹھانا مکروہ ہے۔<sup>[57]</sup>
- ﴿5﴾ قرآنِ پاک کو بے وضو پڑھنا جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ وضو کر کے پڑھے۔<sup>[58]</sup>

## وضو میں پانی کا اسراف

آج کل اکثر لوگ وضو میں تیز نل کھول کر بے تحاشہ پانی بہاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو وضو خانے پر آتے ہی نل کھول دیتے ہیں، اس کے بعد آستین چڑھاتے ہیں، اتنی دیر تک معاذ اللہ پانی ضائع ہوتا رہتا ہے، اسی طرح مسح کے دوران اکثریت نل کھلا چھوڑ دیتی ہے! ہم سب کو اللہ پاک سے ڈر کر اسراف سے بچنا چاہئے، قیامت کے روز ڈرے ڈرے اور قطرے قطرے کا حساب ہو گا۔ اسراف کی مذمت میں چار احادیث مبارکہ سنئے اور خوف خداوندی سے لرزیئے:

### ﴿1﴾ جاری نہر پر بھی اسراف

اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا: یہ اسراف کیسا؟ عرض کی: کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا: ”ہاں! اگرچہ تم جاری نہر پر ہو۔“<sup>[59]</sup>

### اعلیٰ حضرت کا فتویٰ

میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس حدیثِ پاک کے تحت فرماتے ہیں: حدیث

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر ایک بار دُرُودِ پاک پڑھا اللہ پاک اُس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔ (مسلم)

نے تہرِ جاری میں بھی اسراف ثابت فرمایا اور اسرافِ شرع میں مذموم ہی ہو کر آیا ہے۔

آیہ کریمہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۴۱﴾ (پ ۸، الانعام: ۱۴۱) (ترجمہ کنز الایمان: اور بے جانہ خرچو بے شک بے جا خرچنے والے سے پسند نہیں۔) مطلق ہے تو یہ اسراف بھی مذموم و ممنوع ہی ہو گا بلکہ خود اسراف فی الوضو میں بھی صیغہ نہی وارد اور نہی حقیقتہً مفید تحریم (یعنی وضو میں اسراف کی مُمانعت کا حکم آیا ہے اور حقیقت میں مُمانعت کا حکم حرام ہونے کا فائدہ دیتا ہے)۔<sup>[60]</sup>

### ﴿2﴾ اسراف نہ کر

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا، فرمایا: اسراف نہ کر، اسراف نہ کر۔<sup>[61]</sup>

### ﴿3﴾ اسراف شیطانی کام ہے

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ خیر (بھلائی) نہیں اور وہ کام شیطان کی طرف سے ہے۔<sup>[62]</sup>

### ﴿4﴾ جنت کا سفید محل مانگنا کیسا؟

حضرت عبد اللہ بن معقل رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو اس طرح دُعَا مانگتے سنا کہ الہی! میں تجھ سے جنت کا داہنی (یعنی سیدھی) طرف والا سفید محل مانگتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اے میرے بچے! اللہ سے جنت مانگو اور دوزخ سے اُس کی پناہ مانگو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس اُمت میں وہ قوم ہوگی جو وضو اور دُعَا میں حد سے تجاوز کیا کرے گی۔<sup>[63]</sup>

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اُس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر دُرُودِ پاک نہ پڑھے۔ (ترمذی)

حکیمُ الْأُمّتِ مفتی احمد یار خان حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیثِ پاک کے تحت فرماتے ہیں:  
دُعائیں تجاوز (یعنی حد سے بڑھنا) تو یہ ہے کہ ایسی بات کا تعین کیا جائے جس کی ضرورت نہیں  
جیسے ان کے صاحبزادے نے کیا۔ فردوس (جو کہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اُس کا) مانگنا بہت بہتر  
ہے کہ اس میں شخصی تعین نہیں نوعی تقرر (یعنی قسم مقرر کرنا) ہے اس کا حکم دیا گیا ہے۔<sup>[64]</sup>

بُرا کیا، ظلم کیا

ایک اعرابی نے خدمتِ اقدس حضورِ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر وضو  
کے بارے میں پوچھا: حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وضو کر کے دکھایا جس میں  
ہر عضو تین تین بار دھویا پھر فرمایا: وضو اس طرح ہے، تو جو اس سے زائد کرے یا کم کرے  
اُس نے بُرا کیا اور ظلم کیا۔<sup>[65]</sup>

عملی طور پر وضو کیجئے

اے عاشقانِ رسول! اس حدیثِ پاک سے معلوم ہوا کہ سکھانے کے لیے خود عملی  
طور پر وضو کر کے دوسرے کو دکھانا سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ مُبَلِّغِین  
کو چاہئے کہ اس حدیثِ پاک پر عمل کرتے ہوئے بغیر اسراف کے صرف حسبِ ضرورت  
پانی بہا کر تین تین بار اعضاء دھو کر وضو کر کے اسلامی بھائیوں کو دکھائیں۔ بلا ضرورت شرعی  
کوئی عضو چار بار نہ ڈھلے اس کا خیال رکھا جائے، پھر جو نجوشی اپنی اصلاح کروانا چاہے وہ بھی  
وضو کر کے مُبَلِّغ کو دکھائے اور اپنی غلطیاں دُور کروائے۔ دعوتِ اسلامی کے سنتوں کی تربیت  
کے مدنی قافلوں میں عاشقانِ رسول کی صحبت میں یہ دینی کام اَحْسَن طریقے پر ہو سکتا ہے۔  
دُرست وضو کرنا ضرور ضرور ضرور سیکھ لیجئے۔ صرف ایک آدھ بار وضو کا طریقہ پڑھ لینے

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم: جو مجھ پر دس مرتبہ دُرودِ پاک پڑھے اللہ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ (طبرانی)

سے صحیح معنوں میں وضو کرنا آجائے یہ بہت مشکل ہے، بار بار مشق کرنی ہوگی۔

### مسجد اور مدرّسے کے پانی کا اسراف

گھر کے پانی کی نسبت مسجد و مدرّسے کے پانی کا حکم زیادہ سخت ہے لہذا جو لوگ مسجد کے وضو خانے پر بے دردی کے ساتھ پانی بہاتے ہیں بلکہ وضو میں بلا ضرورت فقط غفلت یا جہالت کے سبب تین سے زائد مرتبہ اعضاء دھوتے ہیں، وہ خوفِ خدا سے لرزیں اور توبہ کریں اور جو اپنے آپ کو اسراف سے نہیں بچا پاتا اسے چاہئے کہ مملوکہ (یعنی اپنی ملکیت کے) مثلاً اپنے گھر کے پانی سے وضو کرے۔ معاذ اللہ! اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذاتی پانی کے اسراف کی کھلی چھوٹ ہے بلکہ گھر میں خوب مشق کر کے شرعی وضو سیکھ لے۔

### اسراف سے بچنے کی 4 تدابیر

﴿1﴾ بعض لوگ چلو لینے میں پانی ایسا ڈالتے ہیں کہ اُبل جاتا ہے حالانکہ جو گریبا کر گیا اس سے احتیاط چاہئے۔<sup>[66]</sup>

﴿2﴾ لوٹے کی ٹونٹی مُتوسّط مُعتدل (یعنی درمیانی) چاہئے کہ نہ ایسی تنگ کہ پانی بدیر (یعنی دیر میں) دے نہ فراخ (یعنی کشادہ) کہ حاجت سے زیادہ گرائے، اس کا فرق یوں معلوم ہو سکتا ہے کہ کٹوروں میں پانی لے کر وضو کیجئے تو بہت خرچ ہو گا یونہی فراخ (یعنی کشادہ) ٹونٹی سے بہانا زیادہ خرچ کا باعث ہے۔ اگر لوٹا ایسا (یعنی کشادہ ٹونٹی والا) ہو تو احتیاط کرے پوری دھار نہ گرائے بلکہ باریک (تل کھولنے میں بھی انہیں باتوں کا خیال رکھئے)۔<sup>[67]</sup>

﴿3﴾ دُست و پا (ہاتھ و پاؤں) پر اگر لوٹے سے دھار ڈالیں تو ناخنوں سے کہنیوں یا پاؤں کے گٹوں کے اوپر (یعنی ٹخنوں) تک علی الاّصال (یعنی مسلسل) اتاریں کہ ایک بار میں ہر جگہ

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر دُؤر دُپاک نہ پڑھا تحقیق وہ بد بخت ہو گیا۔ (ابن سنی)

پر ایک ہی بار گرے، پانی جبکہ گر رہا ہے اور ہاتھ کی رَوانی (بل جُل) میں دیر ہوگی تو ایک جگہ پر مکث کر (یعنی بار بار) گرے گا (اور اس طرح اسراف کی صورت پیدا ہو سکتی ہے)۔<sup>[68]</sup>

﴿4﴾ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ ناخن سے کہنی تک یا (پاؤں کے) گتے تک بہاتے لائے پھر دوبارہ سہ بارہ کے لیے جو ناخن کی طرف لے گئے تو ہاتھ نہ روکا بلکہ دھار جاری رکھی ایسا نہ کریں کہ تمثیل کے عوض (یعنی تین بار کے بجائے) پانچ بار ہو جائے گا بلکہ ہر بار کہنی یا (پاؤں کے) گتے تک لا کر دھار روک لیں اور رُکا ہوا ہاتھ ناخنوں تک لے جا کر وہاں سے پھر اجراء (پانی جاری) کریں کہ سنت یہی ہے کہ ناخن سے کہنیوں یا گٹوں (ٹخنوں) تک پانی بہے نہ اس کا عکس (یعنی اُلٹ، مطلب یہ کہ کہنی یا گتے سے ناخنوں کی طرف پانی بہاتے ہوئے لے جانا سنت نہیں)۔<sup>[69]</sup>

قول جامع یہ ہے کہ سلیقے سے کام لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا: سلیقے سے اٹھاؤ تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے اور بد سلیقگی پر تو بہت (سا) بھی کفایت نہیں کرتا۔<sup>[70]</sup>

”یارب اسراف سے بچا“ کے چودہ حروف کی نسبت

سے اسراف سے بچنے کے لئے 14 مدنی پھول

﴿1﴾ آج تک جتنا بھی ناجائز اسراف کیا ہے، اُس سے توبہ کر کے آئندہ بچنے کی بھرپور کوشش شروع کیجئے۔

﴿2﴾ غور و فکر کیجئے کہ ایسی صورت متعین (یعنی مقرر) ہو جائے کہ دُؤو اور غسل بھی سنت کے مطابق ہو اور پانی بھی کم سے کم خرچ ہو۔ اپنے آپ کو ڈرائیے کہ قیامت میں ایک ایک ذرے اور قطرے قطرے کا حساب ہونا ہے۔ اللہ پاک پارہ 30 سورہ

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار دُور دُور پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ (مجمع الزوائد)

زلزال، آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرماتا ہے:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٣٠﴾  
 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٣١﴾

ترجمہ کنز الایمان: تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ (پ 30، الزلزال: 7، 8)

﴿3﴾ وضو کرتے وقت نل احتیاط سے کھولنے، دورانِ وضو ممکنہ صورت میں ایک ہاتھ نل کے دستے پر رکھے اور ضرورت پوری ہونے پر بار بار نل بند کرتے رہئے۔

﴿4﴾ نل کے مُقابلے میں لوٹے سے وضو کرنے میں پانی کم خرچ ہوتا ہے جس سے ممکن ہو وہ لوٹے سے وضو کرے، اگر نل کے بغیر گزارا نہیں تو ممکنہ صورت میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جن جن اعضا میں آسانی ہو وہ لوٹے سے دھولے۔ نل سے وضو کرنا جائز ہے، بس کسی طرح بھی اسراف سے بچنے کی صورت نکالنی چاہئے۔

﴿5﴾ مسواک، کُلی، غرغره، ناک کی صفائی، داڑھی اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا حلال اور مسح کرتے وقت ایک بھی قطرہ نہ ٹپکتا ہو یوں اچھی طرح نل بند کرنے کی عادت بنائیے۔

﴿6﴾ بالخصوص سردیوں میں وضو یا غسل کرنے نیز برتن اور کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے گرم پانی کے حصول کی خاطر نل کھول کر پائپ میں جمع شدہ ٹھنڈا پانی یوں ہی بہا دینے کے بجائے کسی برتن میں پہلے نکال لینے کی ترکیب بنائیے۔

﴿7﴾ ہاتھ یا منہ دھونے کے لیے صابون کا جھاگ بنانے میں بھی پانی احتیاط سے خرچ کیجئے۔ مثلاً ہاتھ دھونے کے لیے چلو میں پانی کے تھوڑے قطرے ڈال کر صابون لے کر جھاگ بنایا جا سکتا ہے اگر پہلے سے صابون ہاتھ میں لے کر پانی ڈالیں گے تو پانی زیادہ خرچ ہو سکتا ہے۔

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اُس نے مجھ پر دُرُودِ شریف نہ پڑھا اُس نے جفا کی۔ (عبدالرزاق)

﴿8﴾ استعمال کے بعد ایسی صابون دانی میں صابون رکھئے جس میں پانی بالکل نہ ہو، پانی میں رکھ دینے سے صابون گھل کر ضائع ہو گا۔ ہاتھ دھونے کے بیسن کے کناروں پر بھی صابون نہ رکھا جائے کہ پانی کی وجہ سے جلدی گھل جاتا ہے۔

﴿9﴾ پی چکنے کے بعد گلاس میں بچا ہوا پانی چھینک دینے کے بجائے دوسرے کو پلا دیجئے یا کسی اور استعمال میں لیجئے۔

﴿10﴾ پھل، کپڑے، برتن اور فرزش بلکہ چائے کا کپ یا ایک چمچ بھی دھوتے وقت نیز نزل کھول کر اس قدر زیادہ غیر ضروری پانی بہانے کا آج کل رواج ہے کہ حساس اور دین دار آدمی سے دیکھا نہیں جاتا!!! اے کاش! ص:

شاید کہ اتر جائے ترے دل میں مری بات

﴿11﴾ اکثر مسجدوں، گھروں، دفتروں، دُکانوں وغیرہ میں خوانخواہ دن رات بتیاں جلتی A.C. اور پنکھے چلتے رہتے ہیں، ضرورت پوری ہو جانے کے بعد بتیاں، پنکھے A.C. اور کمپیوٹر وغیرہ بند کر دینے کی عادت بنائیے، ہم سبھی کو حسابِ آخرت سے ڈرنا اور ہر مُعاملے میں اسراف سے بچتے رہنا چاہئے۔

﴿12﴾ استنج خانے میں لوٹا استعمال کیجئے کہ فوارے سے طہارت کرنے میں پانی بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے اور پاؤں بھی اکثر آلودہ ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کو چاہئے کہ ہر بار پیشاب کرنے کے بعد ایک لوٹا پانی لے کر W.C. کے کناروں پر تھوڑا سا بہائے پھر قدرے اوپر سے (مگر چھینٹوں سے بچتے ہوئے) بڑے سوراخ میں ڈال دیا کرے ان شاء اللہ بدبو اور جراثیم کی افزائش میں کمی ہوگی۔ ”فلش ٹینک“ سے صفائی میں پانی بہت زیادہ صرف ہوتا ہے۔

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر روزِ جمعہ ڈرود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اُس کی شفاعت کروں گا۔ (صحیح الجامع)

﴿13﴾ نل سے قطرے ٹپکتے رہتے ہوں تو فوراً اس کا حل نکالنے ورنہ پانی ضائع ہوتا رہے گا۔ بسا اوقات مساجد و مدارس کے نل ٹپکتے رہتے ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا! انتظامیہ کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے فوراً کوئی حل نکالنا چاہئے۔

﴿14﴾ کھانا کھانے، چائے یا کوئی مشروب پینے، پھل کاٹنے وغیرہ معاملات میں خوب احتیاط فرمائیے تاکہ ہر دانہ، ہر غذائی ذرہ اور ہر قطرہ استعمال ہو جائے۔

## 12 مدنی پھولوں کا گلدستہ

\* دورانِ وضو حدیث (یعنی وضو توڑنے والا کوئی عمل) پایا گیا یا وضو ادھورا چھوڑ دیا اگر یہ کسی عذر سے ہو تو جتنا وضو کر چکا اس کا ثواب ملے گا \* بلا عذر وضو ادھورا چھوڑ دیا تو جتنے افعال بجالایا ان پر بھی ثواب نہیں پائے گا۔<sup>[71]</sup> \* شدید گرم یا بہت زیادہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مکروہِ تنزیہی ہے کیونکہ اس سے ہر عضو کو اچھی طرح دھویا نہیں جاسکتا۔<sup>[72]</sup> \* کسی سے زبردستی لئے ہوئے پانی سے وضو ہو جائے گا لیکن حرام ہے۔<sup>[73]</sup> \* ناسمجھ بچے کو طواف کرانے کے لئے بچے کا ولی اسے وضو کرا دے۔<sup>[74]</sup> \* چہرہ دھوتے وقت سب طرف سے چہرے کے ساتھ ملی ہوئی جگہوں کا کچھ حصہ دھونا بھی واجب ہے اسی طرح ہاتھ پاؤں دھونے میں بھی معمولی سا بڑھائے۔<sup>[75]</sup> \* مستعمل پانی کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور وہ دو قلوں کی مقدار (191 کلوگرام) کو پہنچ گیا تو وہ پانی منظر (پاک کرنے والا) ہو گیا۔<sup>[76]</sup> \* ہاتھ کا کچھ حصہ کٹ گیا تو باقی حصے کو دھونا فرض ہے اگر کہنی سے کٹا تو کہنی کو دھونا فرض ہے اور اگر کہنی کے اوپر سے کٹا تو باقی بازو دھونا فرض نہیں البتہ سنت ہے۔<sup>[77]</sup> \* بالوں کا وہ حصہ جو لٹک کر سر کی حدود سے نکل گیا جیسے چوٹی اس کا مسح کافی نہیں۔<sup>[78]</sup> \* وضو کے شروع

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اُس نے مجھ پر رُز و پاک نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ (طبرانی)

میں بِسْمِ اللہ شریف پڑھنا بھول گیا تو درمیان میں جب یاد آئے بِسْمِ اللہ اَوَّلُکَ وَاٰخِرُکَ پڑھ لے۔<sup>[79]</sup> \* ہر اس بال اور ناخن کا دھونا واجب ہے جو محلِّ فَرَض میں ہے اگرچہ لمبے ہوں۔ اسی طرح پھوڑے پھنسی اور زائد انگلی کا دھونا بھی واجب ہے۔<sup>[80]</sup> \* خود کی انگلیوں کے علاوہ ہر کھردری چیز سے مسواک کی سنت ادا ہو جاتی ہے لیکن افضل یہ ہے کہ مسواک کسی دَرَحْتَ کی شاخ سے کرے۔<sup>[81]</sup> \* مُنہ دھونے میں پانی نہ گالوں پر ڈالے نہ ناک پر نہ زور سے پیشانی پر، یہ سب افعال جاہلوں کے ہیں بلکہ آہستہ سے پیشانی کے اوپر سے ڈالے کہ ٹھوڑی سے نیچے تک بہتا آئے۔

یارِ بَیْتِ مِصْطَفٰی! ہمیں اسراف سے بچتے ہوئے شرعی وُضُو کے ساتھ ہر وقت باوُضُو رہنا نصیب فرما۔ اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

### باوُضُو مرنے والا شہید ہے

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اگر تم ہمیشہ باوُضُو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو کیونکہ مُلْکُ الْمَوْتِ جس بندے کی روح حالتِ وُضُو میں قبض کرتا ہے اُس کے لئے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ (شعب الایمان، باب الطہارات، 3/29، حدیث: 2783)

### یہ رسالہ پڑھ کر دوسرے کو دے دیجئے

شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور جلوسِ میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل اور مدنی پھولوں پر مشتمل پمفلٹ تقسیم کر کے ثواب کمائیے، گاہوں کو بہ نیتِ ثواب تحفے میں دینے کے لئے اپنی دکانوں پر بھی رسائل رکھنے کا معمول بنائیے، اخبار فروشوں یا بچوں کے ذریعے اپنے محلے کے گھر گھر میں ماہانہ کم از کم ایک عدد سنتوں بھر رسالہ یا مدنی پھولوں کا پمفلٹ پہنچا کر نیکی کی دعوت کی دھو میں مچائیے۔

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: مجھ پر دُرُودِ پاکِ نِکَکَثْرَتِ کَرُوْبے شَکْتِ تَمہَارَا مَچھ پَر دُرُودِ پاکِ پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ (بوہی)

## ولادت میں آسانی کا نسخہ (مریم بی بی کا پھول)

مریم بی بی کا پھول<sup>۱</sup> درِ دِزہ (بچے کی ولادت کا درد) شروع ہونے پر کسی کھلے برتن یا ڈبے میں پانی میں ڈال دیا جائے تو جیسے جیسے تر ہوتا جائے گا یہ کھلتا جائے گا اور اللہ پاک کی عنایت سے مریم بی بی کے پھول کی برکت سے بچے کی ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔

بغیر آپریشن ولادت ہو گئی (مریم بی بی کے پھول کا فائدہ)

دعوتِ اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے ایک مدرّس مدنی اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میرے دوسرے بچے کی ولادت کا دن تھا، میرے بچوں کی امی اسپتال کے مخصوص کمرے (لیبر روم) میں جا چکی تھیں، کچھ ہی دیر بعد مجھے مدنی منے کی ولادت کی خوش خبری ملی۔ اسپتال کی انتظار گاہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اُس نے باتوں باتوں میں مریم بی بی کے پھول کا ذکر کیا تو میرے دریافت کرنے پر اُس نے بتایا کہ اگر درِ دِزہ (بچے کی ولادت کا درد) شروع ہونے پر اس سُوکھے پھول کو کسی کھلے برتن یا ڈبے میں پانی میں ڈال دیا جائے تو جیسے جیسے تر ہوتا جائے گا یہ کھلتا جائے گا اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔ پھر کم و بیش دو سال کے بعد جب تیسرے بچے کی ولادت کا مرحلہ آیا تو لیڈی

۱۔۔۔ اسے ”مریم بُوٹی“ اور ”مریم کا پنجر“ بھی کہتے ہیں، بچے کی شکل خشک حالت میں ہوتی ہے۔ پنساری (دیسی دواؤں) کی دُکان سے ملنا ممکن ہے کئے مدینے میں مقامی عورتیں اور بچے زمین پر رکھ کر چیزیں بیچتے ہیں اور ان کے پاس بھی مل سکتا ہے، اس کی خاصیت اور برکت سے واقف عاشقانِ رسول وہاں سے تیز کا وطن لاتے اور دوسروں کو تحفہ پیش کرتے ہیں۔ جس کو دیں اس کو استعمال کا طریقہ سمجھانا ضروری ہے۔ کم پُرانا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔



فرمانِ مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تم جہاں بھی ہو مجھ پر ڈرو پڑو کہ تمہارا ڈرود مجھ تک پہنچتا ہے۔ (طبرانی)

## حوالہ جات

- 11... مجتمہ کبیر، 8/69، حدیث: 15316، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- 12... مسند امام احمد، مسند عثمان بن عفان، 1/190، حدیث: 423، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- 13... میزان الکبریٰ، کتاب الطہارۃ، 1/130، منتقظا، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- 14... دار قطنی، کتاب الطہارۃ، باب التسمیۃ علی الوضوء، 1/52، حدیث: 228 و 229، دار الفکر بیروت۔
- 15... مجتمہ صغیر، ص 168، حدیث: 196، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- 16... کنز العمال، کتاب الطہارۃ، باب الاول، جز: 5، 9/123، حدیث: 25994، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- 17... شعب الایمان، باب فی الطہارات، 3/29، حدیث: 2783، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- 18... مغنی المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/181، دار الحدیث قاہرہ۔
- 19... شعب الایمان، باب فی الطہارات، 3/29، حدیث: 2782۔
- 10... فتاویٰ رضویہ، 1/945، جزء ب، رضافاؤنڈیشن لاہور۔
- 11... مجتمہ اوسط، 4/106، حدیث: 5366، دار الفکر عمان۔
- 12... مسند بزار، 2/75، حدیث: 422، منتقظا، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- 13... احیاء العلوم، کتاب اسرار الطہارۃ، باب آداب قضاء الحاجۃ، 1/178، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- 14... احیاء العلوم، کتاب اسرار الطہارۃ، القسم الثانی طہارۃ الاحداث... الخ، 1/179، ملخصا۔
- 15... فتح المعین، باب الصلاۃ، فصل فی شروط الصلاۃ، ص 58۔
- 16... نہایۃ المراد فی شرح ہدایۃ ابن العماد، ورقہ 69، مخطوطہ۔
- 17... دارمی، کتاب الوضوء، باب القول بعد الوضوء، ص 208، حدیث: 720، دار المعرفہ بیروت۔
- 18... مسائل القرآن، ص 283، شمیر برادز لاہور۔
- 19... کنز العمال، کتاب الطہارۃ، الباب الثانی فی الوضوء، جز: 9، 9/132، حدیث: 26085۔
- حاوی لفتاویٰ، فتاویٰ حدیثیہ، کتاب الطہارۃ، ص 346، بتغیر قلیل، دار الکتب العربیہ بیروت۔
- 20... شعب الایمان، باب فی الطہارات، 3/21، حدیث: 2754۔
- 21... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/96-104، ملخصا، دار الحدیث قاہرہ۔
- 22... المجموع شرح المہذب، کتاب الطہارۃ، باب صفۃ الوضوء، 2/275، مفصلا، دار الحدیث قاہرہ۔
- 23... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/98-117، ملخصا۔
- مغنی المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/163-181، ملخصا۔

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو لوگ اپنی مجلس سے اٹھ کے کراؤں نبی پر رُز و شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبو دار مَر وار سے اُٹھے۔ (شعب الایمان)

- فتح المعین، باب الصلاة، فصل فی شروط الصلاة، ص 51-59، ملخصاً۔
- اعانة الطالبین، باب الصلاة، فصل فی شروط الصلاة، 1/76-96، ملخصاً، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- [24]... استنی الطالب، کتاب الطہارۃ، فصل فی کیفیۃ الغسل، 1/203، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- [25]... نہایۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/114، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- [26]... منہاج الطالبین، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، ص 74، دار المنہاج بیروت۔
- [27]... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/111-115، ملخصاً۔
- [28]... اعانة الطالبین، باب الصلاة، فصل فی شروط الصلاة، 1/86۔
- [29]... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/57، ملخصاً۔
- [30]... اعانة الطالبین، باب الصلاة، 1/48-49، ملخصاً۔
- [31]... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/58، ملخصاً۔
- المنج القويم، باب احکام الطہارۃ، فصل فی الماء المستعمل، ص 13-14، ملخصاً، دار المنہاج بیروت۔
- [32]... اعانة الطالبین، باب الصلاة، فصل فی شروط الصلاة، 1/51۔
- [33]... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/55-56، ملخصاً۔
- [34]... کنز الراغبین مع قلیوبی و عمیرہ، کتاب الطہارۃ، 1/28، دار التوفیقیۃ للتراث قاہرہ۔
- [35]... احیاء العلوم، کتاب اسرار الطہارۃ، باب آداب قضاء الحاجۃ، 1/181۔
- [36]... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب التیمم، 1/155-156، ملخصاً۔
- نہایۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب التیمم، 1/283-285، ملخصاً۔
- [37]... المجموع شرح المہذب، کتاب الطہارۃ، باب صفۃ الوضوء، 2/275، ملقطاً۔
- [38]... اعانة الطالبین، باب الصلاة، فصل فی شروط الصلاة، 1/61۔
- تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/95۔
- [39]... اعانة الطالبین، باب الصلاة، فصل فی شروط الصلاة، 4/468۔
- [40]... کفایۃ الاخیار، کتاب الطہارۃ، باب فرائض الوضوء، ص 40، ملقطاً، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب النجاسۃ، 1/133، بتغییر قلیل۔
- [41]... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/129، بتغییر قلیل۔
- [42]... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/78-79، ملخصاً۔
- اعانة الطالبین، باب الصلاة، فصل فی شروط الصلاة، 1/110-112، ملخصاً۔
- [43]... اعانة الطالبین، باب الصلاة، فصل فی شروط الصلاة، 1/74-75، ملقطاً۔

فرمانِ مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر روزِ جمعہ دو سو بار دُڑو پاک پڑھا اُس کے دو سو سال کے گناہ مُعاف ہوں گے۔ (بخاری و ابوداؤد)

- تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/117۔
- [41]... منہاج الطالبین، کتاب الطہارۃ، باب اسباب الحدیث، 1/71۔
- [45]... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب اسباب الحدیث، 1/81، 82، ملقطا۔
- اعانتہ الطالبین، باب الصلاة، فصل فی شروط الصلاة، 1/106-110، ملخصا۔
- [46]... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب اسباب الحدیث، 1/78۔
- نہایۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/116۔
- [47]... فتح المعین بشرح قرۃ العین، باب الصلاة، ص 62۔
- [48]... حاشیہ قلیوبی علی کنز الرغیبین، باب اسباب الحدیث، 1/46، دار التوفیق للتراث قاہرہ۔
- [49]... بخاری، کتاب التوحید، باب قوله: وکلّم اللہ موسیٰ تکلیما، ص 1811، حدیث: 7517، دار المعرفہ۔
- [50]... روضۃ الطالبین، کتاب النکاح، باب فی خصائص رسول اللہ... الخ، 5/361، دار عالم الکتب۔
- [51]... حاشیہ بحیر می علی الخطیب، کتاب الصلاة، فصل فی سجدۃ السہو، 2/275، ملقطا، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- [52]... اعانتہ الطالبین، باب الصلاة، فصل فی شروط الصلاة، 1/63-64، ملقطا۔
- [53]... المنہج التوہیم، باب الطہارۃ، فصل فی المستحاض، ص 67۔
- تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/176-178۔
- [54]... تحفۃ المحتاج مع حاشیہ شردانی، کتاب الطہارۃ، باب الحیض، 1/654، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- [55]... اعانتہ الطالبین، باب الصلاة، فصل فی شروط الصلاة، 1/103-105، ملخصا۔
- [56]... عمدۃ السالک وعدۃ الناسک، کتاب الطہارۃ، باب اسباب الحدیث، ص 18، الشؤون الدینیہ قطر۔
- تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب اسباب الحدیث، 1/76، ملخصا۔
- [57]... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/82-85، ملخصا۔
- اعانتہ الطالبین، باب الصلاة، فصل فی شروط الصلاة، 1/113-115، ملخصا۔
- [58]... المجموع شرح المہذب، کتاب الطہارۃ، باب ما یوجب الغسل، 3/126۔
- [59]... ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب... المقصد فی الوضوء... الخ، ص 79، حدیث: 425، دار الکتب العلمیہ۔
- [60]... فتاویٰ رضویہ، 1/984، جزب۔
- [61]... ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ و سننہا، باب ماجاء فی المقصد فی الوضوء... الخ، ص 79، حدیث: 424۔
- [62]... کنز العمال، کتاب الطہارۃ، باب الثانی، جز: 9، 9/144، حدیث: 26255۔
- [63]... ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب الاسراف فی الماء، ص 30، حدیث: 96، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- [64]... مرآۃ المناجیح، 1/293، نعیمی کتب خانہ، گجرات۔

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: مجھ پر رُودِ شریف پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ (ابن عدی)

- 65... نسائی، کتاب الطہارۃ، باب الاعتداء فی الوضوء، ص 31، حدیث: 140، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- 66... فتاویٰ رضویہ، 1/1035، جز: ب۔
- 67... فتاویٰ رضویہ، 1/1035، جز: ب۔
- 68... فتاویٰ رضویہ، 1/1041، جز: ب۔
- 69... فتاویٰ رضویہ، 1/1042، جز: ب۔
- 70... فتاویٰ رضویہ، 1/1042، جز: ب۔
- 71... المنہج القویم، باب الطہارۃ، فصل فی الوضوء، ص 26۔
- [72]... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/57، بتغییر قلیل۔
- [73]... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/57، بتغییر قلیل۔
- [74]... اعانۃ الطالبین، باب الصلاۃ، فصل فی شروط الصلاۃ، 1/49۔
- [75]... المنہج القویم، کتاب الطہارۃ، فصل فی الوضوء، ص 25۔
- [76]... اسنی المطالب، کتاب الطہارۃ، 1/12۔
- [77]... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/103۔
- [78]... اسنی المطالب، کتاب الطہارۃ، باب صفۃ الوضوء، 1/96۔
- [79]... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/110۔
- [80]... اعانۃ الطالبین، باب الصلاۃ، 1/69، 70، ملتقطاً۔
- [81]... تحفۃ المحتاج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، 1/105، 106، ملتقطاً۔

## فہرس


صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
5	باؤ وضو مرنے والا شہید ہے	2	وُضُوکَا طَرِيقَه (شَافِعِی)
//	مصیبتوں سے حفاظت کا نسخہ	//	رُودِ شَرِيف کی فضیلت
//	ہر وقت باؤ وضو کرنے کے سات فضائل	//	غنمانِ غنی کا عشقِ رسول
//	دُگنا ثواب	3	گناہ بھڑھرنے کی حکایت
6	سر دی میں وضو کرنے کی حکایت	4	سارا بدن پاک ہو گیا!
//	وُضُوکَا طَرِيقَه (شَافِعِی)	//	باؤ وضو سونے کی فضیلت

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر روزِ جمعہ ڈرود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اُس کی شفاعت کروں گا۔ (صحیح الجامع)


19	سونے سے وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا بیان	9	وضو کے بچے ہوئے یا بانی میں ہر بیماری سے شفا
20	انبیائے کرام کا وضو اور نیند مبارک	10	جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں
//	مساجد کے وضو خانے	//	نظر کبھی کمزور نہ ہو
21	گھر میں وضو خانہ بنوائے	//	بعد وضو تین بار سورہ قدر پڑھنے کے فضائل
//	وضو خانہ بنوانے کا طریقہ	11	وضو کے بعد پڑھنے کی دُعا
22	وضو خانے کے 9 مدنی پھول	//	وضو کے بعد یہ بھی پڑھ لیجئے
23	جن کا وضو نہ رہتا ہو ان کے لئے 9 احکام	//	وضو کے 6 فرائض
25	پانچ متفرق احکام	12	دھونے کی تعریف
//	بے وضو قرآن پاک کو چھونا حرام ہے	//	وضو کی 44 سنتیں
26	وضو میں پانی کا اسراف	14	وضو کے 10 مکروہات
//	﴿1﴾ جاری نہر پر بھی اسراف	15	دھوپ کے گرم پانی کی وضاحت
//	اعلیٰ حضرت کا فتویٰ	//	مستعمل پانی کا آہم مسئلہ
27	﴿2﴾ اسراف نہ کر	//	مٹی ملے پانی سے وضو ہو گا یا نہیں
//	﴿3﴾ اسراف شیطانی کام ہے	16	تصوف کا عظیم ہندنی نسخہ
//	﴿4﴾ جنت کا سفید محل مانگنا کیسا؟	17	اگر جنم کے کسی حصے پر زخم ہو تو
28	بُرا کیا، ظلم کیا	//	وضو میں مہندی وغیرہ کا مسئلہ
//	عملی طور پر وضو سیکھئے	18	غضو پر پانی کو تبدیل کرنے والی چیز ہو تو
29	مسجد اور مدرّسے کے پانی کا اسراف	//	کیا ستر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
//	اسراف سے بچنے کی 4 تدابیر	//	غسل کا وضو کافی ہے
30	اسراف سے بچنے کے لئے 14 مدنی پھول	//	عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کے مسائل
33	12 مدنی پھولوں کا گلدستہ		وضو میں شک آنے کے 3 احکام
35	ولادت میں آسانی کا نسخہ (مریم بی بی کا پھول)	//	کیا ستر کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟

# وضو خانہ عطار (دامت بڑھانم) العتاقیہ

اوپر سے وضو خانے کا نقشہ



سیدھی طرف سے وضو خانے کا نقشہ



978-969-722-139-4



01082101



فیضانِ مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی کراچی

UAN +92 21 111 25 26 92 0313-1139278

www.maktabatulmadinah.com / www.dawateislami.net

feedback@maktabatulmadinah.com / ilmia@dawateislami.net